

145607- کیا نور اللہ نام رکھنا جائز ہے؟

سوال

میرا ایک دوست ہے جس کا نام نور اللہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں اس طرح کا نام رکھنا جائز ہے؟ میں اسے کیسے مطمئن کروں کہ اسلام میں بطور کسی شخص کے ذاتی نام اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے؟

پسندیدہ جواب

نور اللہ نام رکھنا مکروہ ہے؛ اس سے یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ اس نام والا شخص اللہ کے حقیقی نور سے ہے جو اللہ کی حقیقی صفات میں سے ایک ہے، اور یہ تصور بالکل غلط اور باطل ہے، یہ نظریہ عیسائیوں اور غالی صوفیوں میں سے حلول کے قائلین کے موقف کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ بعض گمراہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔

اور اگر نور اللہ سے مراد اللہ کی مخلوق نور ہے، تو باوجود اس کے کہ دنیا میں ہر نور کا اللہ ہی خالق ہے اور وہی زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف اضافت کر کے نور اللہ نام رکھنا غلط ہے اور اس بارے میں قرآن و سنت کے اسلوب اور مسلمانوں کے متواتر عمل سے متضاد ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"لفظ "نور" کسی ذات کی صفت ہو تو اس کی اضافت اللہ کی طرف کبھی بھی نہیں کی گئی، چنانچہ دنیا میں جتنے بھی چراغ یا روشنیاں ہیں ان کو "نور اللہ" نہیں کہا جاتا اور نہ ہی سورج اور چاند کو نور اللہ کہا گیا"

مجموع الفتاویٰ (6/392)

اس کے علاوہ آخری مضموم کے اعتبار سے اس میں خود نمائی پائی جاتی ہے، جو کہ شریعت میں منع ہے۔

شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں :

"انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام ایسا نہ رکھے جس میں خود نمائی نہ پائی جائے"

فتاویٰ نور علی الدرب (23/228)

مزید سوال نمبر: (1692) کے جواب ملاحظہ فرمائیں۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے "نور الدائم" نام رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا :

"نور الدائم" سے مراد اگر اللہ ہے؛ کیونکہ ہمیشہ صرف اللہ ہی ہے، تو ایسا نام تبدیل کر دینا چاہیے تاکہ یہ گمان نہ ہو کہ اس سے وہ نور مراد ہے جو اللہ کی صفت ہے؛ کیونکہ نور کی دو قسمیں ہیں :

1- وہ نور جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔

2- نور سے مراد روشنیاں ہیں جو مخلوق میں جیسے سورج، چاند وغیرہ یہ روشنی (کے ذرائع) مخلوق ہیں۔ اور اسلام کا نور بھی مخلوق نور میں شامل ہے۔
چنانچہ اسے چاہیے کہ ایسا نام تبدیل کر دے تاکہ (اللہ کی صفت کا) وہم نہ ہو "انتہی

دروس مفرغہ، الشاملہ (10/29)

واللہ اعلم۔